



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Media and Corporate Communications Department

Press Release

April 9, 2016

For immediate release

SECP notifies draft Private Placement of Securities Rules for public comments

ISLAMABAD, April 9: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) with the approval of the federal government has notified the draft Private Placement of Securities Rules, 2016, and has placed them on its website for public comments within 30 days.

Since the investors in securities issued through private placement include companies that manage public funds such as mutual funds, pension funds, employees' funds; listed companies, banks, insurance companies etc., therefore, it is imperative to provide appropriate regulatory framework for regulating issuance of securities through private placement.

The rules shall be applicable to the issuance of both debt and equity securities issued through private placement.

The draft rules encompasses the eligibility criteria, disclosures in the Information Memorandum (IM), restriction on number of subscribers, induction of the security in the central depository system, emphasizes on utilizing the proceeds of the issue for the purpose disclosed in the IM, and reporting of the issue and redemption status to the SECP.

In case of debt securities additional conditions include placement to only specified investors, appointment of debt security trustee, instrument's credit rating and appropriate collateralization/security arrangement.

It is expected that the rules will help in developing a disciplined private placement market, facilitating both the corporates and the investors.

ایس ای سی پی نے حصص کی پرائیویٹ پیشکش کے قواعد کا مسودہ عوامی آراء کے لئے جاری کر دیا

اسلام آباد (۱۹ اپریل) سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت کی منظوری سے حصص کی نجی طور پر پیشکش کرنے کے لئے قواعد کا مسودہ عوامی آراء کے لئے پیش کر دیا ہے۔ یہ مسودہ ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر موجود ہے ، دلچسپی رکھنے والے افراد تیس دن کے اندر ایس ای سی پی کو اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔

حصص کی پرائیویٹ یا نجی خرید و فروخت میں کمپنیاں اپنے حصص میں سرمایہ کاری کے لئے نجی طور پر لین دین کر کے مختلف اداروں جیسے کہ میوچل فنڈز ، ایمپلائز فنڈ ، پینشن فنڈ وغیرہ سے ادراجاتی سرمایہ کاری حاصل کرتی ہیں لہذا یہ کیپٹل مارکیٹ کا ایک اہم عنصر ہے اس لئے ایس ای سی پی نے ضروری محسوس کیا کہ حصص کی نجی سطح پر لین دین کو ریگولیٹ کرنے کے لئے انتظامی دھانچہ تشکیل دیا جائے

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NICL Building, 63Jinnah Avenue, Islamabad

Tel: 051-9100432

Email: sajid.gondal@secp.gov.pk

لہذا ایس ای سی پی نے سیکیورٹیز ایکٹ 2015 کے تحت حصص کی پرائیویٹ پلیسمنٹ کے رولز تیار کئے گئے اور عوامی آراء کے لئے جاری کیا گیا۔

قوائد کے مسودہ میں حصص کی نجی سطح پر لین دین کے لئے اہلیت کا معیار ، ضروری معلومات کی فراہمی، لین دین میں اراکین کی تعداد کا تعین، سنٹرل ڈیپازٹری نظام میں حفاظتی انتظامات اور دیگر درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے رپورٹنگ کرنا شامل ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ڈیٹ سیکیورٹیز کی فراہمی کے لئے میں اضافی شرائط لاگو کی جائیں گی جس میں صرف مخصوص سرمایہ کاروں کو ڈیٹ سیکیورٹیز فراہم کی جا سکیں گی اور ڈیٹ سیکیورٹیز کی ادائیگی کے تحفظ کے لئے کسی شخص کی تقرری لازمی ہو گی۔ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ قوائد سے پرائیویٹ پلیسمنٹ مارکیٹ میں ممکنہ طور پر ہماری پیدا ہو گی اور ساتھ ہی سرمایہ کاروں اور کارپوریٹس کے لئے آسانی بھی پیدا ہو گی۔